

تعاقات عامہ دفتر

جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی

October-10 2023

پر لیس ریلیز

میڈیکل سائنسز کی نیشنل اکیڈمی نے جامعہ کے پروفیسر کو موقر فیلوشپ سے نوازا

ملک کی نمایاں اور ممتاز اور میڈیکل سائنسز کی نیشنل اکیڈمی نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے فیکٹری آف لائف سائنس کے ڈین، پروفیسر محمد زاہد اشرف کو بجا طور پر موقر فیلوشپ این اے ایم ایس سے نوازا ہے۔ خون جنے کی بیماریوں کے پتھو جنیس میں اونچے مقامات پر آ کر سیجن کی قلت کے اثر کے سلسلے میں غیر معمولی تحقیق کے اعتراف میں انھیں اس شان دار اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ بنگلورو، رمیا میڈیکل کالج کے احاطے میں منعقدہ تیرستھویں نامس جلسہ تقسیم اسناد کی پروقار تقریب میں انھیں اس اعزاز سے نوازا گیا۔ وزیر مملکت برائے صحبت اور خاندانی بہود پروفیسر ایس۔ پی۔ سنگھریمیل اور وزیر مملکت برائے سائنس اینڈ ٹکنالوجی جناب ڈاکٹر جنتندر سنگھ کی موجودگی میں پروفیسر اشرف کو کرناٹک کے عزت مآب گورنر جناب تھاول چند گھنٹوں نے اس اعزاز سے سرفراز کیا۔

نامس (بھارت) ایک سرکردہ ادارہ ہے جو میڈیکل اور سماجی اہداف کے حصول کے لیے بطور اپنے خاص سرمایہ کے علمی قابلیت و افضلیت کو تراشتہ اور اسے فروغ دیتا ہے۔

پروفیسر نجمہ اختر شیخ الجامعہ، جامعہ ملیہ اسلامیہ نے اس بڑی حصولیابی کے لیے پروفیسر اشرف کو مبارک باد دی ہے اور مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔

پروفیسر اشرف کی غیر معمولی تحقیقی خدمات کو ہندوستان کی سرکردہ سائنسی اکیڈمیوں سے اعزازات مل چکے ہیں: انڈین نیشنل اکیڈمی آف سائنسز، انڈین اکیڈمی آف سائنسز اور نیشنل اکیڈمی آف سائنسز۔

نامس کی جانب سے حالیہ فیلوشپ کی یافتگی اس بات کا ثبوت ہے کہ اونچے مقامات کے اثر سے تھرمو بولک خرایوں کے سلسلے میں ان کی تحقیق غیر معمولی ہے۔ اپنے بنیادی مطالعات سے انھوں نے تھرمو بولک خرایوں کو اجاجگرنے والے ڈیموگرافس، میکانزم، جینٹکس

اور پیچھو فیزیولو جی کی تفہیم کو ہمارے لیے بہتر سے بہتر کیا ہے۔ اس طرح بنیادی علاج کو تیار کرنے اور تھیروپی کے شکل و صورت کو تجویز کرنے میں ہمارے لیے آسانیاں فراہم ہوئی ہیں۔

طبعی میدان میں پروفیسر اشرف کی شان دار حصولیا یوں نے انھیں غیر معمولی شہرت و مقبولیت دی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ انھیں موقر آئی سی ایم آر۔ بستنی دیوی امیر چندا یوارڈ کے ساتھ ساتھ با یو جیکل سائنس زمرے میں سال دو ہزار اکیس کا وزیر (صدر جمہور یہ ہند) بھی ملا ہے۔ مزید برا آں وہ گوہار سرچ کانفس کے باوقار رکن بھی ہیں۔

تعلقات عامہ

جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی